

بَصَائِرُ وَعِبَرٌ

رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ!

محمد اعصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری جَمَانَ اللَّهُ



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

بشریت کو قدم قدم پڑھو کر یں لگتی ہیں، کبھی نفسانی خواہشات کی راہ سے اور کبھی عدو میں شیطان لعین کے فریب تلبیں کی راہ سے اور کبھی شیاطین الانس (انسانی شیطانوں) کے وساوس اور غلط ماحول کے برے اثرات سے، لیکن ارجم الراحمین کی رحمت کاملہ قدم قدم پر اس کمزور فطرت انسان کی برابر دشگیری فرماتی رہتی ہے۔ عقل جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر عقل کی رہنمائی کے لیے انبیاء ﷺ کی بعثت و رسالت اور آسمانی تعلیمات کا نظام جاری فرمایا اور امت محدث (عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ) کے لیے تو اس رحمت کاملہ کے مظاہر رحمت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ عبادت و عبودیت کے مظاہر، (اعمال و اعمال) میں انتہائی تيسیر و تسہیل (سہولت اور آسمانی) اور پھر اس عبادت پر بے کران اجر و ثواب اور قدم قدم پر قبولیت اور رضامندی کی بشارتیں، انہی بے کران نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ماہ رمضان المبارک ہے، جو سرتاپا ماہ رحمت ہے اور ماہ برکت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی ؓ کی ایک طویل روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ ماہ شعبان کی آخری تاریخوں میں خطبہ دیا اور فرمایا:

”اے لوگو! تم پر ایک عظیم الشان برکتوں والا مہینہ سایہ فلکن ہونے والا ہے، جس میں ا:- ایک رات (شب قدر) ایسی ہے کہ اس میں عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بر اٹھ کا نہ ہے۔ (قرآن کریم)

۲- اس مہینہ کے دنوں میں روزے فرض ہیں اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنا بہت زیادہ باعثِ خیر و برکت ہے۔ ۳- اس مہینہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ۴- اور فرض کا اجر و ثواب ستر گناہ ملتا ہے۔ ۵- یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدل جنت ہے۔ ۶- مسلمانوں خصوصاً فقراء کے ساتھ موسات و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ۷- مومن کا رزق اس مہینہ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ۸- ایک روزے دار کا روزہ افطار کرنے والے کے بہت سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے اور خود اس روزہ دار کو اپنے روزہ کا ثواب الگ ملتا ہے اور لطف و کرم یہ ہے کہ روزہ دار کا ثواب بالکل کم نہیں ہوتا اور پھر آپ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ روزہ کی یہ افطاری چاہے دو دھن کی لسی ہو یا ایک کھجور کا دانہ یا پانی کا ایک گھونٹ ہو۔ ۹- کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے صلے میں حوض کوثر سے وہ سیرابی نصیب ہو گی جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ۱۰- اس مہینہ کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، درمیانی عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے رہائی کا پیغام ہے۔ ۱۱- جس روزہ دار نے اپنے غلام (یا نوکر یا مزدور) کا بوجھ ہلاک کر دیا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔

(مشکاة المصايح، کتاب الصوم، الفصل الثالث، ص: ۱۷۳، ط: قدیمی)

احادیثِ نبویہ میں ماہ رمضان کے فضائل و برکات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جس کے بیان کرنے کی ان صفات میں گنجائش نہیں، اسی ایک روایت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ولی کامل بنانے کا آسمانی نسخہ

ماہِ رمضان درحقیقت مومن کو ولی کامل بنانے کا ایک عجیب آسمانی نسخہ ہے، قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

”آلَّا إِنَّ أُولَئِيَ الْلَّهُوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ“

(یون: ۶۲، ۶۳)

”یاد کرو! بلاشبہ اللہ کے ولی اور دوست وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف (وہشت) ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی - جو ہر خوف و غم سے آزاد ہوتا ہے - ہر وہ شخص ہے جس میں یہ دو وصف موجود ہیں: ۱- ایمان اور ۲- تقویٰ، گویا کمال تقویٰ کا دوسرا نام ولایت ہے۔ اس ارشادِ گرامی کے بعد حسبِ ذیل آیت کریمہ ملاحظہ ہو:

جب وہ (کفار) اس (جہنم) میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیننا چلانا نہیں گے اور وہ جوش مار رہی ہو گی۔ (قرآن کریم)

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“
(البقرة: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتیوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

اس آیت کریمہ میں حصول تقویٰ کا ذریعہ روزے کو فراہدیا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے صاف نتیجہ نکلا کہ روزہ ولی اللہ بننے کا وسیلہ ہے۔

تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ

اب ذرا غور فرمائیں! روزہ رکھنے سے تقویٰ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا ایک فرض حکم خداوندی کی تعییل ہے، روزہ رکھنے سے منہیات (ممنوع کاموں) اور برائیوں سے اجتناب میسر آئے گا۔ برائیاں کچھ تو ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ کا تعلق پیٹ سے ہے، کچھ کا تعلق شرمگاہ سے ہے اور ان سب کا تعلق نفسی انسانی کی خواہشات سے۔ نفسانی خواہشات بھی مختلف قسم کی ہیں: کچھ خاصیتیں تو انسان میں درندوں کی ہیں: دوسروں کو مارنا، پیڑنا، توڑنا، پھوڑنا اور غیظ و غضب کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کچھ خاصیتیں جانوروں کی ہیں: شکم پروری، تن پروری، کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے مشاغل اور اس کے نتیجہ میں حوانج ضروریہ۔ کچھ نفسیاتی تقاضے شرمگاہ سے متعلق ہیں جن کو ہم عرف میں نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ یہ تینوں نفسانی قوتیں اور ان کی خواہشات جب تک قابو میں نہ آئیں، تقویٰ کا حصول ممکن نہیں۔

اسلام یہ چاہتا ہے اور تمام علماء اخلاق کا کہنا بھی یہی ہے کہ ان تینوں قوتوں کی تہذیب و اصلاح، مجاہدہ اور ریاست کے ذریعہ ہو جائے، یعنی ان کا رُخ صحیح ہو جائے، ان کا استعمال بروقت اور بمحل ہو، بے جا اور ناوقت استعمال اور غلط راہ روی سے کلی طور پر اجتناب ہو جائے۔

اس مقصد کے حصول کے لیے حکماء و عقلاء میں ہمیشہ سے چند اصولی امور پر اتفاق رہا ہے:
”۱- تقلیلِ طعام (کم خوری)، ۲- تقلیلِ کلام (کم گوئی)، ۳- تقلیلِ منام (کم خوابی)، ۴- تقلیلِ اختلاط مع الانام (لوگوں سے کم مانا جانا)۔“

ماہ رمضان کے روزے ان تینوں مقاصد کو پورا کرتے ہیں: روزہ دار کو: - دن میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے۔ ۲:- رات میں تراویح، قیامِ لیل، شب بیداری کے ذریعہ نیند پر کنشروں کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ۳- تلاوتِ کلام اللہ

گویا (جہنم) مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ (قرآن کریم)

اور ذکر اللہ واستغفار کی کثرت کی ترغیب دے کر قلتِ کلام (کم گوئی) کی تدبیر کی گئی ہے۔ ۲۔ رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کو مسنون قرار دے کر لوگوں سے کم ملنے جانے اور بلا ضرورت میل جوں ترک کرنے کی عادت پیدا کرنے کی تدبیر کی گئی ہے۔

پورے ایک ماہ یہ ریاضت کرانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ خصلاتیں مستقل عادات و اخلاق بن جائیں، چنانچہ پورے تیس دن سحری کا حکم دے کر سحر خیزی کی عادت ڈالی جاتی ہے اور پورے ایک ماہ تراویح کا حکم دے کر شب میں کثرت سے نظیں پڑھنے کی عادت ڈالنا مطلوب ہے۔

یہی روزہ کے مقاصد ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ کے حسب ذیل ارشاداتِ عالیہ کامل غور و فکر اور توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور ان پر عمل کیجئے:

① - ”من لم يَدْعُ قول الزورِ وَ الْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللَّهُ حاجَةً فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ۔“

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، ج: ۱، ص: ۲۵۵، ط: قدیمی)
”جو شخص روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹے (بڑے) کام کرنے نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے (جب روزہ کا مقصد پورا نہیں کرتا تو بھوکا پیاسا مرنے کی کیا ضرورت ہے؟)۔“

② - ”وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صُومَ أَحَدَكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْخَبُ، فَإِنْ سَأَلَهُ أَحَدُ فَلِيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔“

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟، ج: ۱، ص: ۲۵۵، ط: قدیمی)
”او رجب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو اس کوئی بے شرم و بے حیائی کی بات کرنی چاہیے اور نہ شور و شغب کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی سخت کلامی یا گالم گلوچ یا ہاتھ پائی کرے تو اس کے جواب میں بس اتنا کہہ دے میرا روزہ ہے۔“

③ - ”كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظُّلْمُ وَ كُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ۔“

(سنن الدارمی، کتاب الصوم، باب في المحافظة على الصوم، ج: ۲، ص: ۳۹۰، ط: دار الكتاب العربي)

”بہت سے روزہ دار ہیں جن کے روزہ کا حاصل بجز بھوک پیاس کی مصیبت جھینیے کے اور کچھ نہیں اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نمازوں کا حاصل بجز مفت کی جگائی کے کچھ نہیں۔“

جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروں نے ان سے پوچھیں گے۔ (قرآن کریم)

④- ”لیس الصیام من الأكل والشرب ، إنما الصیام من اللغو والرفث ، فإن

سابکَ أحدُ أوجهل عليك فقل : إنى صائم.“ (صحیح ابن خزیم، کتاب الصیام،

باب النهي عن اللغو في الصيام، ج: ٣، ص: ٢٤٢، ط: المكتب الإسلامي، بيروت)

”روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے اور بچنے کا نام نہیں، روزہ تو حقیقت میں صرف بے ہودہ اور بے حیائی کی باتوں سے رکنے اور بچنے کا نام ہے، پس اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ بد تمیزی کرے تو تم کہہ دو! میاں! میرا روزہ ہے۔“

⑤- ”رَبَّ صائمٍ لِيُسْ لَهُ مِنْ صِيامِهِ إِلَّا الْجُوعُ.“

(سنن ابن ماجہ، أبواب ما جاء في الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، ص: ١٢١، ط: قدیمی)

”بہت سے روزے دار ہوتے ہیں جن کے روزوں کا حاصل بھوکے مرنے کے سوا کچھ نہیں۔“

⑥- ”مَنْ لَمْ يَدْعِ الْخَنَا وَ الْكَذْبَ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ أَنْ يَدْعِ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔“

(المعجم الأوسط للطبراني، ج: ٤، ص: ٦٥، ط: دار الحرمین، قاهرہ)

”جور روزہ دار فخش کام (گالی گلوچ، بے شرمی کی باتیں) اور جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں۔“

⑦- ”الصیام جُنَاحٌ مالم يخرقها قيل: و بم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة.“

(سنن النسائی، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، ج: ١، ص: ٣١١، ط: قدیمی)

”روزہ (گناہوں سے بچانے والی) ایک سپر (ڈھال) ہے، جب تک روزہ دار اس کو نہ توڑے، عرض کیا گیا: اس ڈھال کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جھوٹ اور غیبت۔“

ان احادیث کو اپنے روزوں کا جائزہ لینے کی غرض سے دوبارہ غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ نبی کریم ﷺ نے کیسی کیسی تدبیروں سے اپنی امت کی تربیت اور ان کے روزوں کی حفاظت فرمائی ہے، تاکہ روزوں کا خاطر خواہ فائدہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تربیت حاصل ہو۔

مجاهدہ نفس اور روزہ

الغرض اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو مجاهدہ نفس کا مہینہ بنایا ہے، تاکہ امت کی ظاہری و باطنی تربیت اور اصلاح ہو سکے اور ان کو یہ موقع اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور گزشتہ پورے سال میں جو کوتاہی کرچے ہیں اس کا تدارک کریں اور آئندہ کے لیے بھی ایسی تیاری کر لیں کہ جلد نفس و شیطان کے اثرات سے متاثر نہ ہوں۔ دن کو روزہ جیسی مبارک عبادت فرض کی جو عجیب و غریب اصلاحی تدابیر پر مشتمل ہے

اور یہاں تک حکم دیا ہے کہ روزہ دار کسی سے سخت کلامی بھی نہ کرے اور کوئی بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے، بلکہ اگر کسی نے سخت کلامی کی اور کوئی تکلیف پہنچائی تو بغیر روزہ کے اگرچہ اتنی ہی مقدار میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی بھی اجازت نہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی جواب سے معذور ہوں۔ افطاری و سحری میں اگر اعتدال سے کام لیا جائے اور شرعی ہدایات اور نبوی ارشادات کے مطابق روزہ رکھ لیا جائے تو درحقیقت انسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور روحانیت ترقی کر کے ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں جلوہ گر ہو جائے اور محبتِ الہی کا وہ اثر دل میں پیدا ہو جائے گا کہ کسی اور تدبیر سے ممکن ہی نہیں۔ رات کو تراویح کی عبادت مقرر کر دی، تاکہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے نفسِ انسانی پر وہ نقوش مرتسم ہو جائیں جو کسی اور تدبیر سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم زبان سے خود پڑھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے، قیام و رکوع و سجود سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت میں مشغول ہے، کبھی دعا میں سر بسجود ہے اور کبھی تسبیح و تہلیل و رِذْ زبان ہے۔ قدرت کیسے روحانی عجیب و غریب سیر و سلوک سے منازلِ عشق کا سفر طے کر رہی ہے، سبحان اللہ!

تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد کا جو مختصر وقفہ ہے، اس میں تسبیحات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس و بزرگی کی جاتی ہے اور بندہ اپنے خدا کے حضور میں حاضر رہتا ہے اور برکاتِ روحانی سے مالا مال ہوتا ہے، یہ بڑا ثقیتی وقت ہے، اس میں توجہِ الہی سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، کلمہ تمجید تو ہر شخص کو یاد ہوتا ہے، یعنی: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“، وہ پڑھ لیا کرے، یا ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ کا ورد جاری رکھے اور فقهاء نے ایک خاص تسبیح جو بہت ہی جامع ہے لکھی ہے، وہ یہ ہے: ”سُبْحَانَ ذِي الْمَلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقَدْرَةِ وَالْكَبِيرِيَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنْامُ وَلَا يَمُوتُ، سَبُوحٌ قَدُوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ“، اس کو تین مرتبہ ہر ترویجہ میں اور وتر اور تراویح کے وقفہ میں پڑھا کریں۔

غرضِ اللہ تعالیٰ نے ماہِ رمضان میں شرعی احکام کا ایسا پروگرام بنایا کہ انسان چاہے تو اپنی پوری زندگی میں صالح و متقی بن جائے۔ نیز ماہِ صیام میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کی ترغیب دے کر متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو تحسین کی بھی تدبیر فرمائی اور اس کے طبعی بخشن کی اصلاح اس طرح کی۔ الغرض پورے مکارِ اخلاق، تقویٰ و صلاح، نیکو شعاری اور نیک گفتاری، جود و سخا اور کرم نفس کی ایسی تلقین کی گئی اور اس

ضرور بہادیت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھلادیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ (قرآن کریم)

کے لیے ایسا پروگرام بنایا گیا کہ عقلِ انسانی حیران رہ جاتی ہے اور اس سے بہتر تدبیر کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم کے ایک لفظ میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ارشاد ہے: ”عَلَّكُمْ تَشْفُونَ“، یعنی ”تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا، تاکہ تم مقنی و صالح بن جاؤ۔“

دینی تربیت اور ماہِ رمضان

آج کل والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت میں بے حد کوتا ہی کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح ان کے ذمہ فرض ہے کہ خود نماز پڑھیں، صالح اور مقنی بنیں، اسی طرح ان کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اور گھر والوں کو نماز سکھائیں اور پڑھائیں، چنانچہ حکم ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، گویا نماز سکھانا اس سے بھی پہلے ہو گا اور اگر دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو والدین اس کو پیشیں اور نماز پڑھائیں۔ الغرض دینی تربیت دینا اور صالح بنانا بھی ان کے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تاکید افرمایا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنفَسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ قَارُّا“ (آخریم: ۲۰) یعنی ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔“ ماہِ رمضان سے یہ فائدہ بآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ ان دنوں مغرب اور عشاء کی نماز میں بچوں کو آنے کا طبعاً شوق رہتا ہے، اسی طرح سحری میں اٹھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی روشنی ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر بچے کے اس فطری جذبہ اور شوق و صلاحیت سے کام لیا جائے تو نہایت آسانی سے نمازوں سحری کا عادی بنایا جاسکتا اور یوں رمضان کی برکت سے اپنی اولاد کو صالح بنانے کی بھی تدبیر کی جاسکتی ہے۔ اگر انسان خود ان باتوں پر عمل کرے تو خود بخوبی اولاد کو صالح و نیک بنانے کی صورتیں نکل آتی ہیں، نیز چونکہ حدیث میں اس مہینہ کو ہمدردی کا مہینہ فرمایا گیا ہے، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور محبت قائم کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ہاتھوڑا سا ہدیہ بھیجنے میں بھی بہت سا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے دلوں میں محبت بڑھادیتے ہیں اور نیکی کا ذریعہ بنادیتے ہیں، اپنے چاروں طرف نیکی کی یاددا لانا اور نیکی پھیلانے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کیا ہے، لہذا محض اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی محبت اور نیک برتاؤ ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے سے اس کام میں بھی بڑی مددتی ہے اور بہت برکت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں اور اس عاشقانہ و محبانہ عبادتِ الہی کے ثمرات و آثار سے بیش از بیش حصہ حصیب ہو، آ میں۔

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

